

ڈاکٹر صہیب حسن، لندن

سیرتِ طیبہ

دورِ حاضر میں امتِ مسلمہ کے مسائل اور حیاتِ طیبہ ﷺ کی روشنی میں اُن کے حل

آج سے ایک سو سال قبل امتِ مسلمہ نوآبادیاتی نظام میں جکڑی، بے بھی اور بیچارگی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آج ۷۵ آزاد ممالک کی شکل میں قوت، عددی اکثریت اور قدرتی وسائل سے ملا مال ہونے کے باوجود ذلت، عاجزی اور درماندگی میں اسی مقام پر کھڑی ہوئی ہے، جہاں سو سال قبل تھی۔ سقوطِ بیت المقدس (۱۹۶۷ء) سے شروع ہو کر کابل اور بغداد پر دشمنانِ اسلام کی یلغار مسلمانوں کے لئے ایک تازیانہ ہے۔ آئینے ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جو اس ناگفته بہ حالت تک پہنچنے کا باعث بنے اور پھر اس رستے کی نشاندہی کی جائے جو اندھروں کی ان تاریک گلیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری بات قرآن مجید، سیرتِ مطہرہ اور اقوالِ نبی ﷺ تک محدود رہے گی کہ بروایت حضرت عائشہؓ نبی ﷺ کا اخلاق و کردار دیکھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو۔^① خود نبی ﷺ نے وحی الہی سے رہنمائی حاصل کی اور پھر قیامت تک کے لئے امت کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیئے گئے:

{لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْنَوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (سورہ احزاب: ۲۱)

”یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمرہ نਮونہ (موجود) ہے، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔“

زواں امت کے اسباب

امت کے اسباب زوال پر نظر ڈالنے تو ان چند حقائق سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی:

① سنتِ الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت، نبی ﷺ کے فرایں سے روگردانی اور

☆ صدر القرآن سوسائٹی لندن؛ سیکرٹری نہ مسلمانی شریعت کو نسل برطانیہ ہو کر کن پریم کو نسل اسلامک ملیفیزیر ٹرست

گناہوں کی کثرت مصائب کے نزول کا باعث بنتی ہے۔

جنگِ احمد میں نبی ﷺ بنفس نفس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اس لئے کہ نبی ﷺ کے ایک حکم کی مخالفت ہوئی۔ آپ ﷺ نے پہاڑ کے عقب میں ایک گھٹائی پر تمیں کے قریب تیر انداز مقرر کئے تھے اور بدایت کی تھی کہ میدانِ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آئیں، تم نے کسی حالت میں اس گھٹائی سے ہٹانا نہیں ہے۔ جنگ کے آغاز میں جب مسلمانوں کا پله بھاری دکھائی دیا تو انہی تیر اندازوں میں سے چند حضرات نے اپنے امیر عبد اللہ بن حمیر سے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے تا کہ بھگوڑے کفار کا مال غیمت ہاتھ میں آئے۔ امیر نے حکم نبوی یاد دلایا، لیکن ان جنگجوؤں کی اکثریت پر حب عاجله غالب رہی۔ جو نہیں انہوں نے گھٹائی کو چھوڑا، کفار کی طرف سے خالد بن ولید نے اچانک حملہ کر دیا۔ پچھے تیر اندازوں کو بآسانی مغلوب کر لیا اور اس طرح آنحضرت ﷺ پر عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کر دیا۔

مسلمان حیران و سراکیہمیں کہ یہ کیسے ہو گیا! جوابِ حقی الہی میں انہیں یاد دلایا جا رہا ہے:

{وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَغَدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ يَأْذِنُهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلَّمُ وَتَنَازَعَ عَنْهُمْ فِي الْأَمْرِ
وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَكُمْ مَا تَحْبِبُونَ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ
صَرَفْتُمْ عَنْهُمْ لِيَتَلَيَّكُمْ، وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

(آل عمران: ۱۵۲)

”اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا، جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑے نے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھادی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا اور پھر اس نے تمہیں ان سے کچیر دیا تاکہ تم کو آزمائے اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے در گزر فرمایا اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔“

اور پھر فرمایا: {أَوْلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبْنَمُ وَمُثْلِيَّهَا فَلَشَمْ أُتَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (آل عمران: ۱۶۵)

”کیا بات ہے) کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ

کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اسی سنتِ الٰہی کو سورہ شوریٰ میں ان الفاظ میں بتایا:

{وَمَا أَصَابُكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَإِمَّا كَسَبْتُمْ وَإِمَّا عَنْ كَثِيرٍ} (الشوریٰ: ۳۰)

”تمہیں جو کچھ مصیبیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدله ہے
اور وہ تو بہت سی باتوں سے در گزر فرمادیتا ہے۔“

۲ اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے
کہ جس کی پاسداری کرنا اس کے لئے ضروری ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ایسا
کوئی غیر مشروط وعدہ کیا ہے جس کی بنا پر ہر حالت میں اللہ پر اُن کی مدد لازم ہو۔ جو بھی
 وعدہ ہے وہ مشروط ہے: {إِن تَنْصُرُوا إِلَهٰ يَنْصُرُكُمْ وَيُبَيِّثُ أَقْدَامَكُمْ} (سورہ محمد: ۷)
”اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔“
{وَلَا تَهْمُنُوا لَا تَحْزِنُوا أَوْ أَئْتُمُ الْأَغْلُونَ إِنَّكُنُنَا مُؤْمِنُينَ} (آل عمران: ۱۳۹)
”تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔“
اور جس آیت سے ایسی مدد کا لازمی آنا سمجھا جا سکتا ہے، وہ بھی ایمان سے مشروط ہے۔
{وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرًا الْمُؤْمِنِينَ} (الروم: ۲۷)

”هم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔“
بلکہ اس بات کو واضح کر دیا کہ ظلم و سرکشی کی بنا پر جو عتاب و عقاب نازل ہوتا
ہے تو پھر وہ بلاۓ عام بن جاتا ہے: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} {
”اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر انہی لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں
سے ظلم کے مریکب ہوئے ہیں۔“} (الانفال: ۲۵)
حوادث زمانہ کے وقت یہ سنتِ الٰہی بھی پیش نظر رہے جو اکثر لوگوں کی آنکھوں
سے او جھل رہتی ہے۔

{أَوْلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْسَدُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتَبَوَّءُونَ وَلَا هُمْ
يَذَّكَّرُونَ} (التوبہ: ۱۳۶) ”اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سلسلہ ایک بدایا بد
کسی نہ کسی آفت میں پھنسنے رہتے ہیں۔ پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔“

گویا اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعہ توبہ اور نصیحت و عبرت حاصل کرنے کا موقع عطا کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اصلاح احوال کی کوشش نہ کی جائے، بگاڑ کو سدھارانہ جائے، غلط کارلو گوں کے ہاتھوں کو کپڑا نہ جائے تو پھر بد بختی کا شکوہ کرتے رہنا بجا نہ ہو گا۔

احادیث نبویہ کی روشنی میں اسباب زوال امت: اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے اور بد کاروں کا ہاتھ کپڑنے کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ یہ تمثیل بیان کرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں اور اس میں لا پرواہی برتنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے سمندری جہاز میں جگہ حاصل کرنے پر قرص اندازی کی، کچھ لوگوں کو اپر کی منزل (یعنی عرش پر) اور کچھ لوگوں کو نچلے حصہ میں جگہ ملی۔ پھر منزل والے لوگ جب پانی بھرنے کے خواہشمند ہوتے تو اپر والوں پر سے گزرتے اس پر عرش والے کہتے ہیں: ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمیں برابر تکلیف پہنچاتے رہو، اس پر نچلی منزل والوں نے کہا: کیوں نہ ہم اپنے حصہ میں سوراخ کر لیں اور اپر والوں کو تکلیف نہ دیں۔ اگر (کشتی کے مسافرین) انہیں اپنے ارادے پر عمل کرنے دیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اگر سب ان کا ہاتھ کپڑلیں تو سب کے سب نجات پائیں گے۔“^(۱)

۲ امت مسلمہ کی زبوان حالی کا ایک نقشہ اس حدیث میں کھینچا گیا ہے جس کے راوی ثوبان ہیں اور جس کے آخر میں وہ سبب سمجھی بتلا دیا گیا ہے جو اس ذات و رسوائی کا باعث بنائے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”عنقریب ایک وقت آئے گا جب دوسری قومیں اکٹھی ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دستر خوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا: کیا ہم اس وقت قلیل تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں تمہاری تعداد تو ہبہت زیادہ ہو گی لیکن تم سیاپ کے اپر بہنے والے خس و خاشاک کی مانند ہو گے، اللہ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا رب چھین لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن، ڈال دے گا۔ پوچھا گیا: اللہ کے رسول یہ ”وہن“ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا کی محبت اور موت (یعنی شہادت) سے نفرت“^(۲)۔

۳ اگر ایک طرف حدیث ثوبان میں اس امت کی حالت ضعف کی تصویر کھینچی گئی ہے تو یہی ثوبان اس حدیث کے بھی روی ہیں جس میں اس امت کے عزو و تقدیر کو بیان کیا گیا ہے،

لیکن آخر میں ایک ایسی حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے جو اب ایک امر واقعہ بن چکی ہے۔ اس حدیث کے معانی کو ذہن نشین کرنے کے لئے ہم اسے سول جملوں کی تقطیع کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

① اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔

② میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کا علاقہ مجھے سمٹ سمتا کر دکھایا گیا ہے۔

③ اور مجھے دو خزانے دیئے گئے ہیں سرخ و سپید۔

④ اور میں نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لئے اپنے رب سے مانگا کہ اس امت کو کسی عمومی قحط سے تباہ نہ کیا جائے۔

⑤ اور ان پرانی کے سوا باہر سے ایسا دشمن مسلط نہ کیا جائے جو انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔

⑥ اور میرے رب نے کہا: اے محمد! میں جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے پلٹا نہیں جا سکتا۔

⑦ میں نے تمہاری یہ بات مان لی کہ میں تیری امت کو ایک عمومی قحط سے ہلاک نہ کروں گا۔

⑧ اور یہ کہ میں ان کے سوا (باہر سے) ایسا دشمن ان پر مسلط نہیں کروں گا جو انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے، چاہے دنیا کے تمام لوگ ہی ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں!!

⑨ البتہ یہ ہو گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔

⑩ اور میں اپنی امت پر گمراہ قسم کے اماموں سے خائف ہوں۔

⑪ اور ایک دفعہ اگر ان پر تلوار چل پڑی تو قیامت تک رفع نہ ہو گی۔

⑫ اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہو گی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ مشرکین سے نہ مل جائے گا۔

⑬ اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ گروہ ہوں کی پوچا شروع کر دیں گے۔

⑭ اور یہ کہ میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں

نبی ہوں۔

(۱۵) اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔

(۱۶) اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، نصرت اس کے شامل حال ہو گی، انہیں چھوڑ کے بھاگ جانے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے، انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا آخری فیصلہ آجائے گا۔^⑤

آنحضرت ﷺ کی وفات تک صرف جزیرہ عرب حلقة بگوشِ اسلام ہوا تھا اور پھر چودہ صدیوں میں اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا اور چونکہ اسلام کا عروج جاری ہے، اس لئے وہ وہاں وہاں تک پہنچے گا، جہاں ابھی نہیں پہنچا ہے۔

سرخ و سپید خزانے، رومی اور فارسی حکومتوں کا مسلمانوں کی قلمروں میں داخل ہونے کا اشارہ تھا جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں پورا ہو گیا اور پھر یہ امت صدھا حادث کے بعد بھی اسی طرح قائم و دائم ہے، قوم نوح یا عاد و ثمود کی طرح صفحہ ہستی سے ناپید نہیں ہوتی اور نہ ہی ماضی کے تاتار، منگول اور صلیبی اپنی تمام تر کوششوں کے بعد اسے ملیا میٹ کر سکے اور نہ ہی حال کے چینیز اور ہلا کوان شاء اللہ اس امت کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔

البتہ ہسپانیہ میں مسلم حکومت کا خاتمه، دولتِ عثمانیہ کا زوال، عصر حاضر میں صورت حال فلسطین، ایران عراق جنگ اور پھر عراق کی کویت پر یلغار آپس کی خانہ جنگیوں، نا تمدیریوں اور ناعاقبت اندیشیوں کا شاخہ نہ ہے جو اہل بصیرت سے پوشیدہ نہیں۔

اس حدیث میں بیان کردہ اکثر پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور باقی پوری ہو کر رہیں گی۔

(۵) حدیث ثوبانؓ سے ایک دم اور آگے چلیں تو سورہ نور میں اس امت کے لئے استخلاف فی الارض، تمکین دین اور حالتِ امن کی جو بشارت دی گئی ہے، وہ اسی آیت کے آخر میں دی گئی شرط کے تحقق ہونے پر ماضی میں بھی پوری ہوتی رہی ہے اور مستقبل کے لئے بھی نویدِ جائفزا کی حیثیت رکھتی ہے:

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكَنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْتَضَ لَهُمْ وَلَيَبْدُلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشَرِّكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ

(نور: ۵۵) الفاسقون {

”تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لئے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لئے وہ پسند فرم اچکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشرکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔“

اس آیت میں عظیم معانی پہاڑ ہیں جو عصر حاضر کی تحریکات کے لئے نقشِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن سے صرفِ نظر کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے سے دور کرنا ہے۔

زمیں میں خلافت..... اللہ کا انعام ہے نہ کہ اصل غایت!

۱ استخلاف فی الأرض اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو آیت میں دی گئی شروط کے متعلق ہونے پر لازماً واقع ہو گا، لیکن یہ غایت یا مقصد نہیں ہے۔ انسانیت کی غایت وہی ہے جو اس آیت کے آخر میں بتائی گئی ہے اور جسے واضح طور پر اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے:

{وَمَا أَخْلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ زِدَادٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يَعْمَلُوا}

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّيَّنِ} (الذاريات: ۵۲-۵۳)

”میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسام، تو اتنا تیک والا، زور آور ہے۔“

اس وعدہِ الہی کے سب سے پہلے مصدق اللہ کے رسول ﷺ تھے، کہاں مکہ کی سر زمین پر تن تہا تو حیدر الہی کا نعرہ لگانے والا آمنہ کے لال، جس کے خون کے درپے تمام کفار کم تھے اور کہاں وہ عظمت و سطوت کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو سارے جزیرہ عرب پران کا جھنڈا سرپسند تھا۔ دینِ اسلام گھر گھر داخل ہو چکا تھا اور سر زمین عرب امن کا گھوارہ بن چکی تھی۔ اس کے دوسرے مصدق صحابہؓ کی وہ صادق جماعت تھی جنہوں نے خلافاء راشدین کی سرپرستی میں دعوتِ حق کو مشرق و مغرب تک پھیلایا اور اپنے وقت کی دو عظیم سلطنتوں یعنی روم و فارس کو شکست سے دوچار کیا اور متشیلیتِ محبوبیت کے ویرانوں کو توحید کے خزانے سے مالا مال

کر دیا۔

یہ اس لئے ممکن ہو سکا کہ یہ جماعتِ حق اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلانے کے لئے اور شرک کے قلعوں کو مسمار کرنے کے لئے اٹھی تھی۔ ان کے عزم صادق، جذبہ وحدانیت اور بندگی رب کے سامنے شرک کے آہنی قلعے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اور پھر چشم فلک نے بار بار یہ نظارہ دیکھا کہ جب بھی مسلمان خالص اللہ کے بھروسہ پر اعداء اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے فتح و نصرت ان کی قدم بوسی کرتی رہی۔ اور اس کے شاہد ہیں صلاح الدین ایوبی بمقابلہ صلیبی (معز کہ حطین ۷۱۸ھ)، محمد الفاتح بمقابلہ بازنطینی سلطنت (فتح قسطنطینیہ ۱۲۵۰ھ)، احمد شاہ عبدالی بمقابلہ مرہٹے (معز کہ پانی پت ۶۱۷ھ) اور بے شمار دوسرے معز کے جو کفر پر حق کی بالادستی قائم کرتے رہے۔

❷ خلافتِ الہی کا نفاذ اسلام کے مجموعی نظام کا ایک حصہ تھا نہ کہ غایت، لیکن عصر حاضر کی جن جن تحریکوں نے اسے غایت کے طور پر اپنایا، انہیں کہیں نہ کہیں شرکیات سے صرف نظر کرنے یا اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ نتیجہ عزہ خدا ہی ملائے وصالِ ختم!

ہمارا مدعا واضح ہے کہ غایت کو غایت رکھا جائے اور وعدے کو وعدہ!!

ایک طالب علم کا کام ہے کہ وہ خوب مختت سے پڑھائی کرے، کتابوں کو حرزِ جان بنائے تاکہ امتحان میں پاس ہو، استاد نے اول آنے والے کے لئے انعام کا وعدہ کیا ہے، وہ اسے مل کر رہے گا۔ اگر اس نے اس کا استحقاق پیدا کر لیا، لیکن یہ کہ طالب علم نہ پڑھائی کرتا ہے اور نہ ہی امتحان میں پاس ہونے کی تگ و دو، بلکہ اس فکر میں رہتا ہے کہ انعام کو کسی طرح استاد کے ہاتھ سے اچک لوں، تو شائد دنیا کی حد تک کوئی طالب علم ایسا کر بھی گزر سکتا ہے، گوئیک کام نہیں کھلائے گا، لیکن رب العزت کے ہاتھ سے اس انعام کو اپنے کی طاقت کسی کے ہاتھ میں نہ تھی اور نہ ہو گی۔

غرض وحدانیت باری تعالیٰ اور عبودیتِ حق کے ساتھ جب بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے گا تو موانع کی عدم موجودگی میں یقیناً وعدہ الہی پورا ہو گا۔ ان موانع کا تذکرہ بعد میں آرہا ہے۔ اس سلسلہ کی ایک روشن مثال دوسو سال قبل شروع ہونے والی شیخ محمد بن عبد الوہاب (ف ۹۲۷ھ / ۱۴۰۶ھ) کی اصلاحی اور تجدیدی تحریک ہے جو خالص توحیدِ الہی کا

بول بالا کرنے اور شرکیات کی بخ کرنی کے لئے شروع کی گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو وہ نصرت اور کامیابی عطا کی کہ دوسرا گزرنے کے باوجود اس تحریک کے بابر کرت اثرات سعودی عرب میں دیکھے جاسکتے ہیں جن میں امن و امان کا قیام اور تمکین دین (یعنی شریعت کا نفاذ) سرفہرست ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ انعام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک توحید باری تعالیٰ اور دینِ خالص کی پاسداری جاری رہے گی آیت انتقال کے ساتھ ساتھ نبی ﷺ کی یہ بشارت برداشت اُلبی بن کعب "بھی ملاحظہ رہے ہے:

«بَشَّرَ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِالسَّنَاءِ وَالرَّفْعَةِ وَالدِّينِ وَالنَّصْرِ وَالْتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةَ لِلَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ»

"اس امت کو رفت و عالی مراتب کی، دین اور فتح و نصرت کی اور زمین میں تمکن ہونے کی بشارت دے دو، لیکن ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کی خاطر کرے گا تو آخرت میں کوئی حصہ نہ پاسکے گا۔"^④

خلافت فی الارض کا جواز اور سیرت طبیہ ﷺ

ان تمہیدی گذارشات کے بعد آئیے ان عوامل کا جائزہ لیا جائے جو عہد رسول ﷺ میں بھی مسلمانوں کے لئے باعثِ فتح و کامرانی اور تمکین فی الارض ہوئے تھے اور بعد کے ادوار میں بھی ان کے لئے سرمایہ افخار رہے اور جن کی پابندی آج بھی امتِ مسلمہ کے لئے باعث نجات ہو سکتی ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ چار عوامل ہیں:

- ایمان بحیثیتِ بنیاد فراہمی قوت صفوں کی شیرازہ بندی اور جہاد
- ایمان: عقیدہ، عبادت، صالح معاشرہ کے قیام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شامل ہے۔
- قوت میں سائنس، شیکناوجی اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق آلات حرب کا حصول شامل ہے۔

● صفووں کی شیرازی بندی میں داخلی اتحاد، تفرقہ بازی اور انتشار فکری کا قلع قع اور خارجی وحدت شامل ہے۔

● جہاد میں جہاد دعوت الی اللہ اور جہاد بمعنی قتال شامل ہیں۔
گویا تفصیلی طور پر یہ دس عوامل ہوئے جن پر اب مفصل کلام کیا جاتا ہے:

۱) عقیدہ کی درستگی اور پختگی

کسی بھی تحریک کی اصل بنیاد وہ عقیدہ ہے جس پر اس تحریک کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ کہ {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيِي وَمَا يَهْكِنُنَا إِلَّا اللَّهُرْ} ”ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔“ (سورۃ الجاثیہ: ۲۳) ان کے سارے تصرفات، جنگ و جدال اور معاملات پر حاوی تھا۔ گویا کہ عابر بیعش کوش کے عالم دوبارہ نیست! ان کے نزد یہکہ زندگی ایک درخت کی مانند ہے جو کہ کونپل کی شکل میں زمین سے پھوٹتا ہے، پودے کی شکل اختیار کرتا ہے پھر تنا اور درخت بن جاتا ہے، برگ و بارپیدا کرتا ہے، پھلدار ہو تو عالم کو فیض یاب کرتا ہے، گھنا ہو تو سایہ دار رہتا ہے، بہار میں جانفزا اور خوشما، خزاں اس کی ناتواں اور بے مزا، تنا اس کا مضبوط ہو تو آندھیوں اور طوفانوں کے تھیڑوں میں بھی ٹکارہتا ہے، لیکن کب تک! مردرا یام سے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں، زندگی کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہلاکسا ایک جھٹکا سے زمین بوس کر دینا ہے، اس کی حیات و موت گردش زمانہ کے تابع ہے، نہ اس میں ثواب کا دخل، نہ عقاب کا عمل، نہ ہی رضائے الہی کا ظہور اور نہ ہی عذاب سماوی کا کوئی دستور۔ انہیں انسانی زندگی اور نباتاتی دنیا میں طبعی اصولوں کا اشتراک تو نظر آیا، لیکن وہ ان اخلاقی اصولوں سے صرف نظر کر گئے جس کی وجہ سے ایک مسلم اور دہریے میں امتیاز قائم ہوتا ہے۔

کفار کے تصویر زندگی کے بر عکس قرآن نے واشگاف اعلان کیا کہ دنیا کے اس استثیج پر کتنی ہی قویں آئیں، زمانہ ان کے لئے صرف ایک جام کی مانند تھا۔ بطور ساقی یہ ان کا کام تھا کہ اسے پانی سے بھر دیتے اور عالم کی پیاس کا مداوا کرتے، دودھ سے بھر دیتے اور نیک نام کہلاتے یا پھر یہ جام نسبت عنبر کی نذر کر دیتے اور عالم مخمور ہو جاتا یا زہر سے بھر دیتے کہ ہر طرف ہلاکت کا دور دورہ ہوتا۔

{وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقْ وَتَوَاصُوا بِالصَّنْبِرِ} (سورۃ العصر)

”زمانے کی قسم، بے شک انسان سرتاسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان

لائے اور نیک عمل کئے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی صحیحت کی۔“

اس اصول کے تحت قومِ نوح کی غرقابی، عاد و ثمود اور قومِ لوط کی ہلاکت اور قومِ فرعون کا دریاد برد ہونا مرور زمانہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالق ارض و سماء کے احکامات کی خلاف ورزی کی بنی پر تھا۔ نبی ﷺ نے بزبانِ قرآن واضح کر دیا کہ امن و امان کا قیام عقیدہ توحید سے وابستہ ہے، شر کیا مظاہر شر ک سے نہیں!.....!

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِسْسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُفْتَدُونَ}

”جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلوہ نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی بدایت یافتہ ہیں۔“ (الانعام: ۸۲)

”ظلم“ ذو معنی لفظ ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ نے سوال کئے جانے پر واضح کر دیا کہ ظلم سے مراد شر ک ہے۔ آپ ﷺ نے بطور استشهاد یہ آیت پڑھی:

{إِنَّ الشَّرِكَ لِظُلْمٍ عَظِيمٍ} ”بے شک شر ک سب سے بڑا ظلم ہے۔“ (لقمان: ۱۳)

ایک اللہ کو پکارنا انسانی فطرت کی پکار ہے تو غیر اللہ کو پکارنا فطرت سے بغاوت ہے۔ عکرمہ بن ابی جہل کا اسلام لانا انسانی فطرت کے اسی پہلو کا آشکارا ہونا تھا۔ فتح مکہ کے وقت عکرمہ کا نام ان آٹھ اشخاص میں شامل تھا جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے بھی پائیں جائیں تو ان کی جان بخشی نہ کی جائے، عکرمہ ساحلِ سمندر کی طرف بھاگا اور پھر اس پہلی کشتی میں سوار ہو گیا جو عازِ محبشه تھی۔ اس کشتی میں بہت سے مشرکین عرب بھی سوار تھے، کشتی سمندر کے سینہ پر خراماں اٹھکیلیاں کرتی رواں دواں تھی کہ سمندر کی موجیں طوفان بن کر کشتی سے ٹکرا گئیں۔ عکرمہ نے دیکھا کہ یہی عرب جولات، ہبل، مناف کو پکارتے نہ تھکلتے تھے، اب اللہ کے نام کی دہائی دے رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے:

”اخلصوا إِنَّ آللَّهِ تَعَالَى عَنِ كُلِّ شَيْءٍ هُنَّا“

”خلوصِ دل سے دعا کرو کہ تمہارے خدا اس مقام پر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔“

اس وقت عکرمہ نے کہا: ”اللہ کی قسم! اگر سمندر میں صرف اخلاص ہی بچا سکتا ہے تو پھر خشکی

میں بھی وہی بچا سکتا ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت

سے چھٹکارا دے دیا تو میں سید حامد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور وہ یقیناً مجھے معاف کر دیں گے۔“

اور پھر ایسا ہی ہوا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مسلمان ہو گئے۔^(۵)

عکرمہ پر گزرنے والے تجربہ کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

{هُوَ الَّذِي يَسْتَأْنِمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كَنَثَمْ فِي الْفُلْكِ وَجَزَّيْنَ بِهِمْ بِرَبِيعِ طَبِيعَةَ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتِهَا رِيحٌ غَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمُؤْخَرُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ أَحْيَطُ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ، لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ}

(یونس: ۲۲)

”وَهُوَ اللَّهُ أَيْسَابِهِ کہ تم کو خشی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لو گوں کو موافق ہوا کہ ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موچیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (بڑے) آگھرے، اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پوکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔“

{فَلَمَّا أَنْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَنْفَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِيقَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَغْيِيْكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، مَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجَعُكُمْ فَنَبَيِّنُكُمْ بِمَا كَنَثْتُمْ تَعْمَلُونَ}

”پھر جب اللہ ان کو چالیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سر کشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو! یہ تمہاری سر کشی تمہارے لئے وبا ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے (چند) فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آتا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتا دیں گے۔“ (یونس: ۲۳)

۲ عبادتِ الہی بجا لانا

ایک مسلمان معاشرہ جو اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت کا مستحق ہے، وہ معاشرہ ہے جو عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف پنج وقت نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس میں نماز کی تمام پینتات جیسے ہاتھ باندھ کر قیام، رکوع اور سجود، دعا، ماوراء الاسباب استعانت اور استغاثہ، قسم، نذر اور قربانی بھی شامل ہیں۔ اعمال قلبیہ میں سے خشیت، رہبست، خوف، تقویٰ، امید و رجاء کا تعلق بھی عبادت سے ہے۔ اسلام کے اركانِ خمسہ کو توہر مسلمان بخوبی سمجھتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ادا کرتا ہے، لیکن عبادت کے باقی

منظور میں ڈنڈی مارنے والوں کی عظیم اکثریت ہے۔

⦿ ایسا قیام جو ایک مقتدا یا پیشواؤ کے احترام کے لئے ہو، ناجائز قرار دیا گیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: «الاتقونا إلیٰ کما یقوم الأعاجم لملوکهم»^①

”میرے لئے اس طرح کھڑے نہ رہو جیسے عجی اپنے بادشاہوں کیلئے کھڑے ہوتے ہیں۔“

سلام کرتے وقت رکوع کی حد تک جھک جانا، پارلیمنٹ کے ایوان میں ایک مجرم کا سپیکر کے سامنے جھکنا، رکوع سے مشابہت کی بناء پر ممنوع قرار پایا۔ کسی مخلوق کے لئے پیشانی زمین پر رکھنا اللہ تعالیٰ کے حق سجدہ کی حق تلفی ہے۔

⦿ «استعينوا على إنجاح الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود»^②

”اپنی حاجات پوری کرنے کے لئے رازداری کے ساتھ ایک دوسرے سے مدد چاہو، کیونکہ جس پر نعمت ہو، اس سے حد کیا جاتا ہے۔“

کہہ کر اسباب کی حد تک ایک دوسرے سے مدد طلب کرنے کی اجازت دے دی۔ اور {إِنَّا أَنَا نَسْتَعِينُ} کے واضح اعلان کے ساتھ امور الاسباب استغاثات بغیر اللہ کی نفعی کر دی۔

⦿ {فَاسْتَغْاثَةُ اللَّهِ مِنْ شَيْءِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} ”اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا (موسیٰ) سے فریاد کی۔“ (القصص: ۱۵) کا بیان موجودہ حاضر شخص سے مدد کی درخواست کو شرف قبولیت عطا کر گیا اور بدر کی رات آنحضرت ﷺ کا اللہ تعالیٰ سے استغاثہ بخواے آیت قرآنی [إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَحْجَابَ لَكُمْ أَنَّى] مُمْدُّكُمْ بِالْأَفْلَفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} ”اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔“ (الانفال: ۹) یہ بتاتا چلا گیا کہ امور الاسباب استغاثہ صرف اللہ کی ذات سے کیا جاسکتا ہے۔ لاریب کہ آنحضرت ﷺ نے معز کہ بدر کے لئے ماڈی ابا ب مہیا کرنے، اپنے جانثاروں کو مدینہ سے بدر تک لے آنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ اس مدد کو چاہا تھا جس پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔

⦿ قسم اٹھانے کو بھی اللہ کے ساتھ خاص کر دیا۔ فرمایا: «من کان خالفا فلی حلسف بالله أولی بصمت»^③ ”جس نے قسم کھلنے ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ہو گرنہ خاموش رہے۔“

☆ یہ روایت ضعیف اور موضوع ہے۔ کما فی الضعفاء للعقيلي واللأکي المصنوعة للسيوطی (

◎ نذر کو بھی اللہ کے لئے خاص کر دیا۔ فرمایا:

﴿مَنْ نذَرَ أَنْ يَطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ﴾^⑩

”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کرے (یعنی نذر پوری کرے) اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر مانی تو پھر وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔“

◎ قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کر کے کوئی ابہام نہیں رہنے دیا گیا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾ ”اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر“ (سورہ الکوثر) اور اعمال قلبیہ میں سے دربارے خیثت: ﴿لَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ﴾ ”سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے“ اور دربارے خوف: ﴿فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُوهُنِّي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ”ان سے مت خوف کھاؤ، مجھ سے ڈروا گر تم مؤمن ہو“ اور بابت رہبست و تقوی: ﴿وَإِنَّمَا يَفَارِهُنَّ... وَإِنَّمَا يَفَاقِنُونَ﴾ اور بابت امید و رجا: ﴿لَا يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ ”اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق کی کیفیت کو ظاہر کر دیا۔

◎ دین کے اصولوں میں مذاہنت (کچھ لو، کچھ دو) کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔

﴿وَذُو الْوَثْدَهُنَّ فَيَذْهَنُونَ﴾ (القمر: ۹)

”وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔“

عبدیالیل کی قیادت میں جب وفد ثقیف مدینہ پہنچا تو انہیں مسجد میں ٹھہرایا گیا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اب جبکہ سارا عرب جو ق در جو ق اسلام میں داخل ہو رہا تھا، ثقیف کے عماندین بھی اسلام کی حقانیت کے قائل ہوتے جا رہے تھے لیکن ثقیف کا سردار عبدیالیل دین کی پابندیوں کو گراں سمجھتے ہوئے چند رخصتوں کا متلاشی تھا۔ اس نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا:

”طالب کی سب سے بڑی پیداوار انگور ہے جس کا سب سے بار آور مصرف شراب کی کشید ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟“ آنحضرت ﷺ نے جواباً اللہ کا فرمان سنایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرَاءُ مَيِّسِرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزَالَامُ رِجْسٌ فِنْ عَمَلٍ إِلَّا شَيْطَانٌ فَإِنَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدہ: ۹۰)

”اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب، جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانے کے

تیریہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں۔ ان سے بالکل الگ رہوتا کہ تم فلاح یاب ہو۔“

پھر پوچھتا ہے: ہم سودی لین دین کرتے ہیں جو کہ ہماری تجارت کا حصہ ہے؟

آپ نے پھر فرمان الٰہی پڑھا: {وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَزَمَ الرِّبُوَا} اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔“ (البقرہ: ۲۷۵) پھر سوال کرتا ہے: ہم مہینوں جتنی مہمات میں گھروں سے باہر رہتے ہیں، کیا غیر عورتوں کے ساتھ تعلق کی اجازت ہو گی؟ آپ ﷺ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی:

{وَلَا تَقْرِبُوا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً فَوْسَائِ سَبِيلًا} (بنی اسرائیل: ۳۲)

”خبردار زنا کے قریب بھی نہ پہنچنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بُری راہ ہے۔“

آخری بات پوچھتا ہے: یہ بیخ وقت نماز تو کوہ گراں ہے، اسی میں تخفیف کر دیں؟

آپ نے ارشاد فرمایا: «الا خير فی دین لیس فیه رکوع» ”اس دین میں بھلا کیا بھلانی ہے جس میں جھکنا نہ ہو۔“ دین کے اصولوں میں مصالحت کی نفی فرمادی۔ اہل ثقیف مسلمان ہو گئے لیکن اپنے پرانے معبدوں لات، کاڈر اب بھی دلوں میں جا گزیں تھا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اس بت کو چند ماہ اور نہ ڈھائیں!! لیکن آنحضرت ﷺ نے یہ درخواست بھی نامنظور کی، اس مقصد کے لئے مغیرہ بن شعبہؓ کو طائف بھیجا۔ جب لات پر وار کرنے کے لئے وہ بڑھ رہے تھے تو اہل طائف انبوہ در انبوہ جمع ہو چکے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے معبد کا باب بھی بیکا ہو سکتا ہے۔ مغیرہ دوڑتے آئے تو پھسل کر گر پڑے، اہل طائف تو جیرت سے چیختے، مغیرہ نے دوبارہ کلکھاڑا اٹھایا اور پھر بت کو اس کی بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا کہ شرک بھول کی باند ہے، اس کا نئے دار درخت کو اکھاڑنا ہے تو پھر جڑ سے اکھاڑنا ہی دانشندی ہے۔^(۴)

نبی ﷺ نے جب حضرت علیؓ کو ایک دعوتی مشن پر بھیجا تو حکم دے دیا کہ ”کوئی بھی جسمہ نظر آئے تو اسے مٹا دو اور کوئی بھی اوپنچی قبر نظر آئے تو اسے برابر کر دو۔“^(۵) گویا شرک کے چور دروازوں کو بند کرنے کا راستہ دکھادیا۔

۳ صاحب معاشرہ کا قیام

گواں دنیا میں خیر و شر آپس میں ملے ہوئے ہیں، حق و باطل کا ٹکراؤ رہتا ہے، لیکن جماعتِ حقہ کا فرض ہے کہ ۶ خیر کو غالب رکھے اور شر ک کی بیخ کرنی کرے مسلمان جہاں کہیں

بھی رہائش پذیر ہوں، مسجد ان کامر کزو محور ٹھہرے۔ آنحضرت ﷺ نے مسجد کے قیام سے مدینہ کی زندگی کا آغاز کیا اور مسلمان جہاں کہیں گئے، اس سنتِ نبویؐ کی پاسداری کرتے رہے۔ مسجد کا قائم کرنا اقامتِ صلوٰۃ کی راہ ہمودار کرتا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی بنیاد رکھتا ہے، اطاعتِ امیر کا جذبہ پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے، مسلمان گھروں میں الفت و محبت، ہمدردی اور غم خواری کے خواہیدہ سوتوں کو بیدار کرتا ہے۔ مکہ میں قائم عبادت کے پہلے گھر کو بیت اللہ کہا گیا اور اس نسبت سے ہر مسجد اللہ کی طرف منسوب ہوئی: {فَيَبْيُوتِ أَذْنَ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} ”ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔“ ان گھروں کو آباد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے خود تحسین فرمائی:

{يَسْتَبِّغُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالآصَالِ رِجَالٌ لَا تَلِمُنُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلُوةَ وَإِنْشَاءَ الرَّكَابَةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَقْتَلُ فِيهَا الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ}

”وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں اُٹ پلٹ ہو جائیں گی۔“

اور پھر ان کے لئے اجر جزیل کا مرشدہ سنایا:

{لِيَجِزِّيْهِمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا عَمَلُوا وَيُزِيدِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (النور: ۳۶-۳۸)

”تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہرین بدله دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادہ عطا فرمائے اور اللہ جسے چاہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔“

ایک صالح معاشرہ کی علامت مسجدوں کا آباد ہونا اور حکامِ مملکت سے لے کر ادنیٰ چیز اسی تک کا مسجد سے تعلق رکھنا ہے۔ اس تعلق میں جہاں کی آئے گی وہاں اللہ کی رحمت دور ہوتی چلی جائے گی۔

امتِ مسلمہ کے لئے نماز کی پابندی اور مسجدوں کی حاضری وہ پیمانہ ہے جس سے رضاۓ الہی اور قربتِ خداوندی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ افسوس ہے اس پیمانہ سے نظریں چراکی جاتی ہیں۔ ناکامی کے اسباب گنوائے جاتے ہیں لیکن اس سببِ اعظم کا دراک نہیں کیا جاتا۔

۲۔ نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے روکنا

مسلم معاشرہ کے لئے خیر کا غالبہ لازمی ہے، فسق و فجور لوگ ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں اور ان کی موجودگی کے باوجود بھی مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ گویا فسق و فجور کے باوجود اللہ کی رحمت و نصرت نازل ہوتی رہی ہے اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احسان باقی رہا ہے:

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَوْمَئُونَ الزَّكُوَةَ وَيَطْبِعُونَ اللَّهُوَرَ سُوْلَهُ، أُولَئِكَ سَيِّزُ حَمْهُمْ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (التوبہ: ۷۱)

”مَوْمَنْ مَرْدُو عُورَت آپُس میں ایک دوسرے کے (مدگار و معاون اور) دوست ہیں۔ وہ بھلاکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نمازوں کو پابندی سے بجالاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا ہے۔“

اس امت کو خیر امت کا لقب ان تین اوصاف کی بنا پر دیا گیا: امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان بالله۔ فرمایا:

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَؤْمِنُونَ بِاللهِ} (آل عمران: ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے کہ تم یہکی با توں کا حکم دیتے ہو اور بُری با توں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

”اہل کتاب ایک دوسرے کو بُرائی سے نہیں روکتے تھے۔“ (المائدہ: ۹۶)

لئے ان کی اکثریت فاسق کھلائی:

{وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْفَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}

”اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔“ (آل عمران: ۱۱۰)

سورہ الحدید کی آیت نمبر ۱۶، ۲۲ اور ۲۷ میں بھی ان کی اکثریت کو فاسق بتایا گیا۔ اگر اہل کتاب کا فسق و فجور انہیں اللہ کے آخری پیغام کا حامل بننے کی راہ میں حاکل ہو گیا تو خیر امت کو بھی اپنی خیر منانی چاہئے، کہیں فسق و فجور کی کثرت تو انہیں، نہیں لے ڈوبی ہے!!

منکران تمام چیزوں کا نام ہے جن سے ایک نیک فطرت ابا کرتی ہے، چاہے وہ نا انصافی ہو، رشوت کا چال چلن ہو، آرٹ اور فن کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کی ترویج ہو، مے خانہ ہو یا تجھہ خانہ، مرکز قمار ہو یا ریس کورس، مردوزن کے لئے بے محابا احتلاط کے کلب ہوں یا رقص گاہیں، فطرتِ اسلام ان سب سے ابا کرتی ہے اور اگر ان منکرات کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہو اور عوام الناس کی آشیرباد تو پھر ایسی سلطنت اپنے فست کی بنا پر ہلاک کر دی جاتی ہے:

{وَإِذَا أَرْدَنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرِيبًاً أَمْزَنَا مُشْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَرَّ نَاهَا تَدْمِيرًا} (بنی اسرائیل: ۱۶)

”اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (کچھ) حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم اسے تباہ و بر باد کر دیتے ہیں۔“
اور بعض دفعہ ظالموں کو دوسرے ظالموں کے ہاتھ ہی تباہ کر دیا جاتا ہے:
{وَكَذَلِكَ تُؤْلَى بِغَضْضِ الظَّالِمِينَ بِغَضَاضِهِما كَأَنُوا يَكُسِّبُونَ} (الانعام: ۱۲۹)

”اور اس طرح ہم بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کے پیچے لگادیتے ہیں، ان کے اپنے اعمال کے سبب۔“

اور اسی سنتِ الٰہی کے تحت ظالم و اشتبہن کو ظالم عراق سے ٹکرا دیا گیا۔ حقیقی ایمان سے دونوں محروم تھے، اس لئے ایک زور آور طاقت کمزور طاقت پر غلبہ پا گئی جبکہ اہل ایمان کو باوجود قلتِ تعداد کے اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے:
{كَمْ مِنْ فَقِيلَةٍ غَابَتْ فَقَةٌ كَثِيرٌ إِذَا ذُنِّ اللَّهُ} (البقرہ: ۲۳۹)

”بس اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔“

۵ قوت اور طاقت کی فراہمی

اہل ایمان کو دشمنانِ اسلام سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور قوت فراہم کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سورۃ الحدید اور سورۃ الانفال کی دو آیات اہل سلام کے لئے مشعل راہ ہیں:

{لَقَدْ أَرَى سُلَطَانًا بِالْبَيْتِ وَأَنْزَلَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمُنْيَزَانِ لِيَقُولُ النَّاسُ بِالْقُسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ هُوَ رَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ عَنِّيْزٌ} (الحدید: ۲۵)

”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترزاو) نازل فرمایا تا کہ لوگ عدل پر قائم رہیں اور ہم نے لو ہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے اور لوگوں کے لئے اور بھی (بہت سے) فائدے ہیں اور اس لئے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔“

شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی قوت اور اعتزاز کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس نے لو ہے کو اتارا کہ جس سے مضبوط آلات بنائے جاتے ہیں۔ اس کی قوت اور اعتزاز کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر قادر ہے، لیکن وہ اپنے اولیاً کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھڑادیتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عالم غیب (یعنی اس دنیا میں) کون اس کی نصرت کرتا ہے۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور لو ہے کا ساتھ ساتھ ذکر کیا کیونکہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ اپنے دین کی مدد کرتا ہے اور اپنے کلمہ کوبند کرتا ہے، کتاب کے ساتھ کہ جو جنت اور برہان پر مشتمل ہے اور تلوار کے ساتھ جو اللہ کے اذن کے ساتھ نصرت لے کر آتی ہے۔ ان دونوں کا قیام عدل و انصاف کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ جو باری تعالیٰ کی حکمت، کاملیت اور اسکے رسولوں کے ذریعہ بھیجی گئی شریعت کے کمل پر ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔“^④

اس سلسلہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:

{وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ زَبَاطِ الْجَنِيلِ ثُرَهُبُونَ بِهِ عَدُوُ اللَّهِ وَعَدُوُ كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ ذُرَيْبِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (الانفال: ۲۰)

”تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔“

- ① یہ نہیں کہا گیا کہ اتنی قوت فراہم کرو جتنی اعداء اسلام کے پاس ہے، بلکہ اتنی جتنی کہ تم استطاعت رکھتے ہو۔ اس میں افرادی قوت بھی آجاتی ہے اور آلات حرب بھی۔
- ② 'قوت' کا بیان کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيمِ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيمِ "تیری اندازی ہی قوت ہے، سنو! تیری اندازی ہی قوت ہے۔"
- ③ یعنی زمانہ نبوت میں جو قدرت راجح تھی آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے مجھیق، گولہ بارود اور دیگر آلات حرب کو بھی استعمال کیا، اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ موجودہ دور میں جو چیز عسکری لحاظ سے ایک قوم کو تقویت بہم پہنچلی ہے، وہی قوت ہے۔ چاہے وہ سائنس اور علمیانوں کی شکل میں ہو، یعنی طاقت کے حصول میں ہو، لٹا کاطیاروں، جنگی بیڑوں اور آبوزوں کا روپ رکھتی ہو، یعنیکوں، آرمرد گاڑیوں، میراںکوں کی صورت رکھتی ہو، ان سب کا حصول ضروری ہے!!
- ④ رباط الخیل (گھوڑوں کے دستوں) کے تیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اگر گھوڑے عسکری نقل و حرکت کے لئے استعمال ہو اور جس کی پیٹھ پر ہوتے تھے تو آج ہروہ گاڑی (جس کے انہن کی طاقت کو اب بھی ہار س پاور کی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے) جو اس مقصد کے لئے استعمال ہو اور جس کی پیٹھ پر جنگ میں حصہ لیا جاسکے، رباط الخیل کے حکم میں ہے یعنی قوت کی فراہمی کے ساتھ اس قوت کے استعمال میں مدد گار آلات دونوں مطلوب ہیں۔
- ⑤ قوت کی فراہمی دونہ امن میں بھی مطلوب ہے تاکہ دشمن پر دھاک بٹھائی جاسکے، دشمن کی تیاریوں سے غافل رہنا اور پھر اچانک حملہ کی صورت میں سراسیگی کا شکار ہو جانا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔
- نبی ﷺ کا رومیوں کے موقع حملہ کی پیش بندی کے لئے خود نفس نفس لشکر اسلام کے ساتھ تبوک جانا اسی مقصد کی خاطر تھا۔ آپ ﷺ کا مملکت اسلام کی سرحدوں تک جانا دشمن کے لئے ہمت شکن ثابت ہوا اور انہیں حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔
- ⑥ قوت کی فراہمی میں جو کچھ خرچ کیا جائے گا، فی سبیل اللہ کے حکم میں ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

ان متنزد کرہ باتوں کے علاوہ دشمن کے مقابلہ میں عددی قوت اور قوتِ حرбیہ کے دشمن میں سورۃ الانفال کی چند مزید آیات پیش نظر ہیں:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ فَنَّكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَا تَئِنَّ وَإِنْ يَكُنْ فَنَّكُمْ مائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} (الانفال: ۲۵)

”اے نبی! ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے۔ اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔“

چونکہ قتال سے بھاگنا ان سات کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔^{۱۷} اس لئے بتا دیا گیا کہ دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدی کی حد کیا ہے۔ یہ آیات شروعِ اسلام کی ہیں جب ایمانی طاقت اپنے عروج پر تھی اور مسلمان تعداد کے اعتبار سے قلیل تھے، اس لئے دس گناہ دشمن کے مقابلے میں ٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ مردانہ وار مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس حکم میں تخفیف کردی گئی:

{الْفَنَ حَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعْلَمَ أَنَّ مَنْكُمْ ضَعِيفًا فَإِنْ يَكُنْ فَنَّكُمْ مائَةً صَابِرُوْةً يَغْلِبُوْنَ مَا تَئِنَّ وَإِنْ يَكُنْ فَنَّكُمْ أَلْفًا يَغْلِبُوْنَ الْأَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ} (الانفال: ۲۶)

”اچھا اب اللہ تمہارا بوجہ ہلاک کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

یعنی اگر دشمن دگنی تعداد میں ہو تو اس کا مقابلہ فرض ہے۔ راہ فردا ختیار کرنا جائز نہیں۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی متنزد کرہ بالا تعداد صبر (ثابت قدی) کے ساتھ مربوط ہے۔ تھڑی لے، بزدل اور پست بہت نوجوانوں کی تعداد مراد نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں جس دشمن کے سامنے کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کم و بیش ویسے ہی آلاتِ حرب استعمال کر رہا تھا جو مسلمانوں کے پاس تھے، بدروحد میں دشمن کے پاس توار، تیر، نیزے بطور ہتھیار اور گھوڑے، اونٹ برائے بار برداری تھے اور تعداد کے تقاضت سے یہی چیزیں مسلمانوں

کے پاس بھی تھیں۔ اس لئے یہ وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو بھی انہی آلاتِ حرب سے لیس ہونا چاہئے جو دشمنانِ اسلام کے استعمال میں ہیں، البتہ تعداد کی کمی ایمان اور صبر کے ہتھیاروں سے پوری کی جاسکتی ہے کہ جس کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے فرمایا:

{يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يُنَقِّيُنَّهُ أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَى الظُّلْمَةِ وَالصَّلَاةُ إِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُ الصَّابِرِينَ} (آل بقریٰ: ۱۵۳)

”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔“

غزوہ موتہ (۸۷) میں مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی جب کے مقابلے میں قصر روم کے بانگ گزار نہیں بلکہ ان کی فوج کی تعداد ایک لاکھ تھی، گویا نقدت کی نسبت ایک بمقابلہ دس نہیں بلکہ ایک مقابلہ تین تیس ۳۳ تھی۔ پھر بھی محبوبین اسلام نے سرفوشی کی مثالیں قائم کر دیں۔ زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم یکے بعد دیگر شہید ہوئے اور پھر خالد بن ولید ”کمالِ داشمندی“ سے باقی ماندہ فوج کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔^⑯

صرف وقت کی فراہمی پر اکتفانہ کیا جائے بلکہ ایمان اور صبر کے ہتھیاروں کو حزر جان بنایا جائے:

{وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَخْرُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَغْلُونُ إِنَّ كُن്ُ�تُمْ مُؤْمِنِينَ}

”تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو“ (آل عمران: ۳۹) اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک انسان تلوار ہاتھ میں رکھتا ہے، لیکن ذہنی طور پر اتنا بزرگ ہے کہ اس کے بازو دشمن کے مقابلہ میں تلوار اٹھا نہیں پاتے تو ایسی تلوار کس کام کی؟ ایسے ہی مسلمانوں کے پاس جدید سے جدید شیکنا لوگی موجود ہو لیکن دشمن کی ایک بڑھک ان کے اوس ان خطا کر دے تو پھر ایسی شیکنا لوگی کا کیا حاصل؟ بقول شاعر:

أَسْدِ عَكْيٍ وَفِي الْحَرُوبِ نَعَمَةٌ هِيفَاءٌ تَصْرُفُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ

”بیوی اپنے شوہر سے مخاطب ہے:“ میرے اوپر تو شیر بنا پھرتا ہے لیکن جنگ میں شتر مرغ، کہ ذرا سی آہٹ سے کلیجہ منہ کوآ جاتا ہے۔“

شیکنا لوگی علم سے وابستہ ہے۔ عالم اسلام میں جدید علوم کے حصول کے لئے زیادہ سے زیادہ جامعات قائم ہوئی چاہیئیں لیکن ان جامعات میں سیرت اور اعجاز علمی سلپیس کا لازمی جزو ہونا چاہئے تا کہ مادی علوم کے ساتھ ایمان کو بھی جلا ملتی رہے۔

اعجاز علمی سے ہماری مراد ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسے بہت سے اشارات ملتے ہیں جو سائنسی حقائق کا پتہ دے رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے صدر دفتر مکہ مکرمہ میں اعجاز علمی کا

مستقل شعبہ قائم ہے جس میں اس موضوع پر سیر حاصل کام ہو چکا ہے۔ ان کے اس کام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ مزید برا آں ایسے اساتذہ کا انتخاب ہونا چاہئے جو سائنس کی تعلیم کے ساتھ طلبہ کے سینیوں میں ایمان کی مشعلیں بھی فروزاں رکھیں۔

آج ہمارے کتنے عالی دماغ جوہر مغرب میں سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کتنے ہی علم کے اعلیٰ مدارج حاصل کر چکے ہیں لیکن دیارِ مغرب کے ملدوہنوں سے تربیت پانے کی بنابر حبِ عاجله کا شکار ہیں اور مجاتے اوطاںِ اسلام کو مضبوط کرنے کے اغیار کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے جریلِ مغرب کی عسکری تربیت گاہوں میں ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد معمر کہ کفر و ایمان میں اپنی بے اعتقادی، ضعف ایمانی اور کم ہمتی کی بنا پر دشمنوں کے سامنے سپر ڈال چکے ہیں۔ سقوطِ بیت المقدس، سقوطِ ڈھاکہ اور اب سقوطِ بغداد انہی جرنیلوں کی سیہہ کاریوں کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوئے۔

۲ صفوں کی شیرازہ بندی اور داخلی اتحاد کی کوشش

اس وقت امتِ مسلمہ تباونِ ممالک میں سیاسی برتری اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے، ہر مسلم ملک ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جو دوسری اکائیوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم اتحاد کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہر اکائی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔

ان تمام عوامل کی بخوبی لازمی ہے جو ایک وحدت کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوں، ان میں سرفہrst برادری ازم، قبائلی عصیت، علاقائیت، قومیت اور فرقہ واریت ہیں۔ کسی بھی اسلامی ملک کو دیکھ لجھئے، علاقائیت کا عفریت بھائی بھائی کے درمیان نفرت اور عداوت کے پیچ بوتا نظر آئے گا۔ صومالیہ میں شمال و جنوب کی کشمکش، پاکستان میں شیعہ و سنی اور صوبائیت پر بنی تعصبات کی آویزش، بیگلمہ دیش میں سلہٹ اور غیر سلمہ افراد کے درمیان تفاخر کی کیفیت، عراق میں تمام ترمصاہب کے باوجود اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اور پھر عربوں اور کردوں کے درمیان محاذا آرائی، افغانستان میں پختون، ازبک اور تاجک قوموں کے مابین تنافس جو امر یکہ کے جملہ کے وقت کھل کر ظاہر ہو چکا، اس امر کی چند نمایاں مثالیں ہیں۔

نبی ﷺ نے مدینہ میں جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس کی بنیاد مہاجرین و انصار کے درمیان

اُخوت، محبت اور یگانگت پر رکھی گئی تھی۔ مہاجر اور انصار کے دونوں معزز لقب اپنے اپنے اوصافِ حمیدہ کی بنا پر وحی الٰہی میں جگہ پا گئے:

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَلَهُمْ جَنَاحَ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (التوبہ: ۱۰۰)

”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور متقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغِ مہیا کر کے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

لیکن جب انہی دونوں جماعتوں کے دو افراد ایک کنویں سے پانی نکالنے پر جھگڑ پڑے اور مہاجر نے مہاجرین کی دھائی دی اور انصاری نے انصار کی تور رسول اللہ ﷺ سب کام چھوڑ چھاڑ کر موقع نزاع پر پہنچے اور بیانگِ دہل ارشاد فرمایا: «أَبْدُعُوكُمْ الْجَاهْلِيَّةَ وَأَنَّابِينَ أَظْهَارُوكُمْ» ”جالبیت کا نعرہ لگاتے ہو، حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان ہوں۔“

یعنی وہ معزز لقب جو بھرت اور نصرت کے اعتبار سے انتہائی معزز اور قابل صد افتخار تھا، جب دو جماعتوں کو لڑانے کے لئے استعمال کیا گیا تو جالبیت کا نعرہ کھلا گیا، وہ جالبیت جسے قبل از اسلام کفریہ دور سے تعبیر کیا جاتا تھا۔

لیکن پاکستانی مسلمانوں کے لئے لمحہ فکریہ نہیں کہ یہاں بھی صوبائیت اور مہاجرت کے نام پر بھائی بھائی کی گردن کاٹی گئی ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اور پھر بھی اللہ کی نصرت کی امید کی جاتی ہے!!

عربِ ممالک میں قومیت کا نعرہ بڑی شان سے بلند کیا گیا، لیکن یہ نعرہ یہودیوں کی چھوٹی سی ریاست کا مقابلہ کرنے یا اہل فلسطین کو ان کی سر زمین واپس لوٹانے میں عربوں کی کوئی مدد نہیں کرسکا، عرب لیگ آج ایک بے جان لاشہ ہے جو تجویز و تغییر کا منتظر ہے۔ صدام اور حافظ الاسد کی بعث پارٹی کے نام سے ایک بے خدا تحریک آپس میں جنگ وجدال، قتل و غارت اور سفا کی ودرندگی کا نگاہناج ناچ ناچنے کے بعد خود بھی ڈوبی اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبی۔ کیا بھی اس کی باقیات سینہ سے خیر کی توقع کی جاسکتی ہے؟

۴ دین میں تفرقہ بازی سے اجتناب

فرقہ بازی کی تباہ کاریاں ہر کس و ناکس کے سامنے عیاں ہیں۔ کسی بھی خارجی یلغار کے وقت و قتی طور پر مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد دکھائی دیتا ہے، لیکن جو نبی سیاہ بادل چھٹتے ہیں، دینی علم سے وابستہ افراد پھر ایک دوسرے کے خلاف چاند ماری شروع کر دیتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کسی اور کے لئے نازل ہوا ہے:

{وَأَخْتَصِمُوا بِحَجْبِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا} {آل عمران: ۱۰۳}

”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔“

{وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَقَفْشُلُوا وَتَذَهَّبُ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، إِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبٌ الظَّاهِرِينَ} {الانفال: ۲۶}

”اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

کیا عالم، مشانخ اور طلبہ علم کا یہ فرض نہیں ہے کہ موجودہ پڑا شوب حالات میں امت مسلمه کی صفوں میں مزید انحراف پیدا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کریں، اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا قرآن و حدیث ان اصولوں کی طرف رہنمائی نہیں کرتے جن سے آپس میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے!! اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اہل کتاب کو چیلنج کیا جائے کہ جس 'کلمہ سوائی' کا اقرار تمہیں بھی ہے اور مسلمانوں کو بھی، اس پر بجع ہو جاؤ تاکہ حق قبول کرنے کے لئے تمہارا سینہ کشادہ ہو سکے، کیا مسلمانوں کے پاس قرآن، احادیث صحیحہ اور اسوہ حسنہ کی شکل میں اتحاد کی واضح اساسات موجود نہیں کہ صرف امت کی بھلائی کی خاطر اپنے مسلکی اختلافات کو اپنے گروہ کی حد تک محدود رکھیں اور ملکی سطح پر اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کریں۔

یقیناً موجودہ مجلس عمل ایک انتہائی خوش آئند کوشش ہے لیکن یہ اتحاد صرف بعض معاویہ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہئے، اس کا مقصد صرف اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچانا ہو، بلکہ اسے اپنی مساجد، اپنے مدارس اور اپنی خانقاہوں تک وسعت دی جائے تاکہ عوام الناس تک اسلام

کی اعلیٰ تعلیمات کے عملی مظاہر سامنے آسکیں۔

قرآن و سنت، اُسوہ رسول اور تعامل صحابہ امت کا مشترکہ سرمایہ ہیں۔ یہ ہمارے اتحاد اور طاقت کا باعث ہیں۔ اگر مسلمانوں کے تمام فرقے ان اساسات پر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر انہیں حکومیت، اغیار کی غلامی، عمومی ذلت اور نکتہ سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ کے بر عکس اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین حق پر قائم و دائم رکھنے کے لئے حفظ قرآن (جس میں سنت بحیثیت شرح قرآن بھی شامل ہے) اور وجود طائفہ منصورة کی شکل میں دو ایسے عوامل رکھے ہیں جو حق کو منٹے یادین میں تحریف پیدا ہونے سے مانع ہیں۔ طائفہ منصورة سے ہماری مراد ہر وہ فرد، گروہ یا جماعت ہے جو اس حدیث کا مصدقہ ہے:

«الاتزال طائفۃ من امتی ظاهرين علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتی يأتي أمر الله وهم كذلك»^(۱۹)

”میری امت میں برابرا ایک گروہ ایسا رہے گا جو غالب رہے گا، حق پر ہو گا، انہیں چھوڑ کر جانے والے انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے گا۔“

اس حدیث کا ابہام دوسری روایت سے دور ہو جاتا ہے:

«الاتزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، ظاهرين علی من ناو اهم حتی یقاتل آخرهم المسيح الدجال»^(۲۰)

”میری امت میں سے ایک گروہ حق پر لڑتا رہے گا، اپنے مخالفین پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری فرد (یا مجموعہ) مسیح الدجال سے قتال کرے گا۔“

یعنی ایسے لوگ جن کی زبان، قلم اور ہاتھ سے حق کا ظہور ہوتا رہے گا اور وہ کسی بھی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کئے بغیر حق کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے یہ دنیا اپنی آخری اجل کو پہنچ جائے گی۔

اسی جماعت ہر وہ جماعت ہے جو عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم ہو، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو من و عن بیان کرنے کی پابند ہو، جس کی صفوں میں تقویٰ اور للہیت کا دور دورہ ہو، جس کی امارت برادری ازم، صلاحیت یا سانی و صوابی عصوبیت یا خاندانی توارث کے لزوم سے مبرأ ہو۔ صرف تقویٰ، صلاحیت اور حسن تدبیر (سیاست شرعیہ) کے بل بوتے پر منتخب کی گئی ہو۔ یہ سب نہ ہو تو صرف ادعاء پارسائی، منافقت اور مکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

۱۸ و سیج پیانہ پر مسلمانوں کا اتحاد

یہ ذمہ داری ان سیاستدانوں، حکمرانوں، قوموں کی قسمتوں سے کھلینے والے جرنیلوں، بادشاہوں اور آمرؤں سے متعلق ہے جو یا تو آئینی طور پر، یا کسی کائناتی حادثہ کے طور پر، یا کسی داخلی یا خارجی طاقت کے اشارہ پر یا ایک تاریخی تسلسل کے طور پر حکومت کا بار اپنے ناتوال کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد مسلم ممالک کے اعتبار سے ۷۵ بنتی ہے۔ خیال رہے کہ ریاستہائے متحده امریکہ جس نے انگریزوں کے تسلط سے ایک طویل جنگ آزادی کے بعد ۲۷ جولائی ۱۷۷۶ء کو جنم لیا تھا اور جوابتدائی تیرہ ریاستوں سے بڑھ کر آج پچاس ریاستوں پر مبنی ایک عظیم الشان ملک ہے، اپنی طاقت کاراز کس چیز میں سمجھتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پچھلے سال ”جمع علماء الشریعہ، امریکہ“ کے ایک اجلاس میں شرکت کے لئے واشنگٹن جانا ہوا، ہلشن ہوٹل کی لفت میں چند لمحوں کے وقوف کے دوران لفت کی مختصر اسکرین پر ایک سطر بار بار فلیش ہو رہی تھی:

”ریاستہائے متحده امریکہ کی طاقت کاراز کیا ہے..... اتحاد“

یہ بھی واضح رہے کہ امریکہ میں ایک قوم نہیں بستی ہے، بلکہ قدیم ریڈ انڈین امریکنوں کی قلیل تعداد (جن کی اکثریت کی نسل کشی کی جا چکی ہے) کے علاوہ یورپ کے ہر خطے کے، بلکہ دنیا کے ہر علاقے کے لوگ موجود ہیں۔ انگریزی کے علاوہ جنوب کی ریاستوں میں اسپینیش زبان کو بحیثیت ثانوی زبان کے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ فرانسیسی اور جرمن کا بھی بعض علاقوں میں دور دورہ ہے۔ ایک صدی قبل شمال اور جنوب کی ریاستوں میں غلامی کے متسلک پر سخت محاذ آرائی بھی ہو چکی ہے، لیکن ان تمام منفی عوامل کے باوجود میں الیاتی اتحاد نے آج امریکہ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں وہ کوس لمن الملک الیوم بجا تا نظر آتا ہے۔

بیشتر مسلم ممالک کی آزادی کی تاریخ چونکہ پچھلے پچاس سالہ سالوں سے متجاوز نہیں، اس لئے ان کا مقابلہ امریکہ جیسی وحدت سے کرنا صحیح نہ ہو گا۔ ہمارے اوپر ماضی کی اس نسل کو ہدیہ تبریک دینا فرض ہے جس نے انتہائی نامساعد حالات میں آزادی کی تحریکات برپا کیں اور پھر یورپ کی استعمدی طاقتوں سے قربانی، سرفوشی اور بہادری کی لازموں دانتائیں رقم کرنے کے بعد آزادی حاصل کی۔ یہ جدوجہد عوام، علماء سیاستدانوں کی ملی جلی کوششوں کا نتیجہ تھی

لیکن جس طرح بنی اسرائیل کا سفینہ سیناء کی چالیس سالہ صحرانور دی کے بعد جہاد و قتال کے مرحلوں سے گذرتا ہوا جب بر امان تک پہنچا تو کچھ عرصہ کے بعد ہی بگاڑ کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی مسلم ممالک کو یہ آزادی راس نہ آئی اور طالع آزماسیاست کے نتیجہ میں کشیاں پھر گرداب میں پھنس چکی ہیں اور ساحل کا دور دور تک پتہ نہیں!!
امید کی چند کرنیں یقیناً جگہاں نہیں، لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ.....!!

* ستمبر ۱۹۷۹ء میں شاہ فصل کی مہیز اور چند دوسرے درد مند حکمرانوں کے تعاون سے مراکش میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور رشتہ بیگانگت قائم کرنے کی یہ اچھی امداد تھی لیکن یقینیں سال گزرنے کے بعد بھی یہ تنظیم اپنی افادیت ثابت نہیں کر سکی ہے۔ سیاسی میدان میں چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کے سلسلہ میں پاکستان کے موقف کی عملی حمایت، ایران و عراق کی آٹھ سالہ خونی جنگ ہو یا کویت پر عراق کا غاصبانہ قبضہ، کیا یہ تنظیم ان میں سے کسی بھی مسئلہ کو حل کر سکی ہے؟

* سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں IFSTAD (ائز نیشنل فاؤنڈیشن فار سائنس فلک اینڈ ٹیکنالوجی) اور COMSTECH (سینیٹ نگ کمیشن فار سائنس فلک اینڈ ٹیکنالوجیکل کو آپریشن) کا قیام نہایت خوش آئند اقدامات تھے، لیکن پہلا ادارہ توسرے سے سر ہی نہ اٹھا سکا اور دوسرا ادارہ بھی ایک کاغذی شیر سے بڑھ کر کچھ نہیں۔

* اقتصادی میدان میں IDB (اسلامک ڈولپمنٹ بنک) اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ بلاسود پنکاری کو فروغ دیا جاسکے۔ اس میدان میں یقیناً کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن 'اوآئی سی'، کو اپنی بقا کے جواز کے لئے کسی انقلابی اقدام کی ضرورت ہے۔

تنظیم کے پہلے سیدری جنرل ملائیشیا کے تکون عبدالرحمن نے اس تنظیم کو کھڑا کرنے، اسکی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور اس کے ذیلی اداروں کو قائم کرنے میں بہت فعال کردار ادا کیا لیکن مقامِ افسوس ہے کہ ان کے اخلاف ان کی اعلیٰ روایات کو باقی نہیں رکھ سکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مہاتیر محمد (سابق وزیر اعظم ملائیشیا) نے 'اوآئی سی' کے آخری اجلاس میں امت مسلمہ کو درپیش جن مسائل کی طرف اشده کیا ہے، ان کے حل تلاش کرنے پر سخیہ گفتگو کی جلتی لیکن مقامِ افسوس ہے کہ مہاتیر محمد بھی نشدت و گفتند و برخاستند سے آگے نہ بڑھ سکے۔^(۱)

کیا مسلمانوں کے لئے یہ مقامِ عبرت نہیں کہ ۱۸۹۷ء میں بازل (سوئٹزر لینڈ) کے مقام پر پہلی صہیونی کانفرنس نے اپنے خفیہ اجلاسوں میں یہودیوں کی عزت و سر بلندی کے لئے جو نقشہ پیش کیا تھا، اس پر خاموشی سے عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ پچاس سالوں میں کاغذ کا یہ نقشہ زمین کا نقش بن گیا اور پھر اس کا پھیلاؤ ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ کیا مسلم ممالک کے زیر ک اور عالی النسب حکمران، مسلمانوں کی عزت و افتخار کے لئے کوئی عملی نقشہ ترتیب دینے سے قاصر ہیں؟
الیس منہم رجل رشید!!

۹ جہاد بمعنی عمومی جدوجہد

قرآن مجید میں جہاد کا لفظ اُتنیس مرتبہ آیا ہے اور مجاہدین کا چار مرتبہ۔ ”جہاد“ مقابله کی جدوجہد کا نام ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے ہر وہ کوشش مراد ہے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے، اللہ کے کلمہ توحید کو سر بلند کرنے کے لئے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لئے، اور فتنوں سے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لئے کی جائے۔
* اس لفظ کا پہلا اطلاق قرآن کریم کے ذریعے امور بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر ہوتا ہے خواہ اس میں قتال موجود نہ ہو۔ سورۃ الفرقان کی سورت ہے اور اس میں یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے:

{فَلَا تَطْعِمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهَدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَيْبِيرًا} (الفرقان: ۵۲)

”پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعہ ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔“
چونکہ مکہ میں جہاد بمعنی قتال کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس لئے آنحضرت ﷺ کا مکی جہاد کتاب اللہ کی تبلیغ و تفہیم سے عبارت تھا جسے یہاں جہاد کمیر کہا گیا ہے۔
* نفس نفس جہاد (یعنی قتال) میں شریک ہونے کا جہاں بھی ذ کر ہے، وہاں سوائے ایک جگہ کے، مالی جہاد کا ذ کر جہاد بالنفس پر مقدم ہے۔ متعلقہ آیات ملاحظہ ہوں:
{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الصَّرْرَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، فَضَلَّ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللهُ الْحَسْنَى وَفَضَلَّ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا}

”اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مؤمن اور بغیر عذر کے بیٹھے

رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔“ (النسائی: ۹۵)

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا حِزْرٌ وَجَاهَدُوا إِيمَانُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (الأنفال: ۷۲)

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا“ {إِنْفَرُوا إِخْفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهَدُوا إِيمَانُ الْكَمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (التوبہ: ۳۱) ”کل کھڑے ہو جاؤ ہلکے ہلکے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو تو بھی اور را رب میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔“

{لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ يَجْاهِدُوا إِيمَانُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ} (التوبہ: ۳۲)

”اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و تيقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی بھی تجھ سے اجازت نہیں طلب کریں گے.....“

{لَكُنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا إِيمَانُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ} (التوبہ: ۸۸)

”لیکن خود رسول اور انکے ساتھ ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں“ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا إِيمَانُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (الحجرات: ۱۵)

”مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لا سکیں۔ پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں (اپنے دعوے ایمان میں) یہی سچے اور راست گو ہیں۔“

{ثُوَمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانُ الْكَمْ وَأَنفُسِكُمْ} (القف: ۱۱)

”اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔“

اس تقدیم میں یہ حکمتیں پوشیدہ ہیں:

① ہر مرکر کے سے قبل اس کے لئے مناسب تیاری کی ضرورت ہے جس میں مال ایک بڑا کردار

ادا کرتا ہے۔ اس لئے مالی ایشار کا مطالیہ سرفہرست رہتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع

پر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے سرمایہ فراہم کرنے کی ہی اپیل کی تھی۔^(۱)

^(۲) مال کی قربانی، اپنی جان قربانی کر دینے کے مقابلہ میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے اور قاعدہ ہے کہ سب سے اونچی گھلائی تک پہنچنے کیلئے نچلی گھلائیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص مال کی قربانی کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا، وہ اس سے برتر امتحان میں کیسے کامیاب ہو گا۔

^(۳) جان کی قربانی کا مرحلہ صرف جہاد (یعنی قتال) کے موقع پر ہی آتا ہے جو ہر زمانہ میں میر نہیں۔ اس کے بر عکس مالی قربانی کا موقع ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس

لئے مسلمانوں کے لئے جہاد کا ایک دائیٰ راستہ کھلار کھا گیا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے جہاں حضرت ابو بکرؓ کی بہت سی حنات کا ذکر کیا ہے وہاں یہ

بھی ارشاد فرمایا: «وَمَا نَفْعَنِي مَالٌ أَحَدٌ قَطُّ مَا نَفْعَنِي مَالٌ أَبْيَ بَكْرٍ»^(۴)

”مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے۔“

* اسلام کے دفاع کے لئے زبان کا جہاد نفس رسولؐ سے ثابت ہے۔ بروایت

انس بن مالک آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«جاهدو الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَالْأَسْنَتِكُمْ»^(۵)

”مشرکین سے جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنی زبانوں سے۔“

زبانی جہاد میں بلاشبہ قلم بھی شامل ہے۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کا مسجد بنوی میں کھڑے ہو کر مشرکین کی ہجو کرنا اسی جہاد کا حصہ تھا جس کی آنحضرت ﷺ نے تحسین فرمائی۔

ملعون سلمان رشدی اور اس سے قبل رغبیلا رسول جیسی ہفوات کے روڈ میں علماء

اسلام کے خطابات، مقالات اور کتب یقیناً اسی جہاد کی کڑیاں ہیں۔

قرآن کی وہ آیت جس میں نفس کا تذکرہ پہلے اور مال کا بعد میں، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے:

{إِنَّ اللَّهَ اَشَّرَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ يَأْنَ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ

فِي قِتْلَوْنَ وَيُقْتَلُونَ، وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ مِنْ

اللَّهُ أَسْتَبَشِرُ بِإِيمَانِكُمُ الَّذِي بَأْيَّعْمَ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض

خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں

اور قتل کئے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے، تم لوگ اپنی اس نیچ پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔“ (اتوبہ ۱۱۰)

اس آیت میں نفس کے ذکر کو پہلے رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ یہاں اللہ اور بندے کے درمیان ایک سودے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیال فی سبیل اللہ کے عوض جنت کی پیشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سودا و اطراف کے درمیان ہوتا ہے۔ مال خود تو ایک پارٹی کی حیثیت نہیں رکھتا کہ اس سے سودا کیا جائے۔ یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ ہیں اور دوسری طرف اہل اسلام بنفس نفس ہیں، اس لئے نفس کا ذکر پہلے کرنا ضروری ہوا۔

۱۴) جہاد بمعنی قیال

دعوتِ اللہ کے نتیجے میں جس جماعتِ حق کا ظہور ہوتا ہے اور پھر جب اسے حکومت کی شکل میں خلافت نصیب ہوتی ہے، اس خلافت کی حدود کی حفاظت کرنا اور دشمن کی یلغار کے وقت اس کا دفاع کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ چاہے فرض عین ہو جبکہ ہر بالغ اور مستطیع شخص کو امیر وقت کی طرف سے قیال کے لئے بلا یا جائے یا فرض کفایہ ہو کہ امت کے جنگجو افراد کی ایک معقول تعداد دشمن کے مقابلہ کے لئے کافی ہو، دونوں صورتوں میں یہ جہاد قیامت تک قائم و دائم رہنے والا ہے:

«الجهاد ماضٌ مِنْذَ بَعْثَتِ اللَّهِ إِلَيْهِ أَنْ يَقْاتِلَ آخِرَ أُمَّتِ الدِّينِ، لَا يَبْطِلُهُ جُورُ جَانِرٍ وَ لَا
عَدْلٌ عَادِلٌ»^(۲)

”جب سے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے لڑائی کرے گا، اس جہاد کو نہ کسی ظالم حکمران کا ظلم منسوخ کر سکتا ہے اور نہ کسی عادل حکمران کا انصاف ہی اسے منسوخ کر سکے گا۔“ بعض دفعہ کسی عظیم مکر (جیسے ایک طاغوتی اور ظالمانہ حکومت) کو ختم کرنے کے لئے بھی جہاد اپنی سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا دائرة و سیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعوتِ اسلام کے پھیلنے میں حاکم رکاوٹوں کا مثالاً جسے قرآن کی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے، بھی اسی جہاد کا ایک حصہ ہے:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَمْ يُؤْتُوكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَحْدُثُوا فِيْكُمْ غَلَظَةٌ}

”اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پاناجائیں۔“ (التوبہ: ۱۲۳)

بے کس اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے تکنا بھی واجب ہے:

{وَمَا لَكُمْ لَا تَقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰلِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْفُرْقَاهِ الطَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَأَوْ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} (النٰسٰی: ۷۵)

”بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان نا توں مرسد، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھکارے کے لئے جہاد نہ کرو؟ جو یوں دعا کیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مدد گار بنا۔“

{وَإِنْ اسْتَشْرُؤْ كُمْ فِي الدِّيَنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْ يَقْنَاقِ} (۷۶)

”اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔“ (الانفال: ۷۶)

فتح مکہ کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے حلیف بنی خزاعہ نے، قریش کے حلیف بنو بکر کی چیرہ دستیوں اور معاهدہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزیوں کے باعث آنحضرت ﷺ سے دادرسی چاہی تھی۔

واضح رہے کہ ملک کا دفاع کرنا تو مسلم وغیر مسلم سب جانتے ہیں۔ اس لئے دفاعی جہاد کے بارے میں توسرے سے کوئی غلط فہمی ہونی ہی نہیں چاہیے، البتہ ایک مسلم حکومت اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ مظلوم مسلمانوں پر ظلم، تعدی، جبراً و استبداد ہوتا دیکھتے ہوئے ان کی مدد کو آسکے۔ اس زمانہ میں فلسطین، کشمیر، یوسینیا اور چینیا کی مثلیں آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ کیا یہ مقامِ افسوس نہیں کہ آج کل ایک سپر پاور صرف اقتصادی فوائد، سیاسی و عسکری برتری حاصل کرنے اور صہیونی ریاست کو تحفظ دینے کے لئے ہزاروں میل دور سے مسلم ممالک پر یکے بعد دیگرے شبحوں مار رہی ہے اور عالم اسلام تک تک دیدم، دم نہ کشیدم کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ہمارے حکمران اور بہت سے اہل علم مذعرت خواہنہ اندماز اپناتے ہوئے صرف یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اسلام صرف صلح و آشتی کا نام ہے ہے، اسے لڑائی بھڑائی سے کیا سرو کار!!

یقیناً اسلام اصلاً امن، صلح اور امان لے کر آیا ہے، لیکن اگر عصر حاضر کے جابر حکمران انصاف کی جگہ ظلم کا ساتھ دیں، نہتے لوگوں پر برم بر سائیں اور ان کی بستیاں جلا کر خاک کر دیں، ایک جگہ کے باشندوں سے اس کا وطن چھین کر دوسرے لوگوں کو بخش دیں۔ شریعت کے نفاذ میں تعطیل پیدا کرنے کے لئے طاقت اور دباؤ سے کام لیں، بے گناہ اشخاص کو بغیر کسی عدالتی فیصلہ رحماء کمہ کے افیت گاہوں میں قید کر دیں تو اسلام کے نام لیواؤں کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے تصورِ جہاد و قتال کو بھی نظریاتی اور عملی، دونوں طرح لوگوں پر واضح کر دیں۔ اس ضمن میں سیرت نبویہ سے ہمیں یہ حدایات ملتی ہیں:

① جہاد کے لئے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا جائے جس کا تذکرہ سورۃ الانفال کے ضمن میں آچکا ہے۔

② جہاد کے لئے اپنے امیر کا ساتھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے برداشت

ابو ہریرۃؓ ارشاد فرمایا: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كأن أو فاجرًا»

”جہاد تمہارے اوپر واجب ہے، ہر امیر کے ساتھ، چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار“ اور اس سے یہ اصولی بات بھی طے ہو گئی کہ ایسے امیر کا انتخاب کیا جائے جو جہاد کا قائل ہو، اور اگر وہ سرے سے جہاد کا قائل ہی نہ ہو تو وہ جہاد کی طرف کیسے بلائے گا اور کیوں بلائے گا؟

③ دشمن کے مقابلہ کے وقت دعا مٹمن کا ہتھیار ہے، لیکن یہ دعا اس وقت پر تاثیر ہو گی جب مجاہدین واقعی جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

رسول اللہ ﷺ بدر کے میدان میں اپنے تین سو ۳۳ تیہ جاں شاردوں کو لے آنے کے بعد ساری رات اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا نیں کرتے رہے۔ آپؐ نے یہاں تک کہہ دیا کہ «اللهم أجزلی ما وعدتنی، اللهم آتني ما وعدتنی، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»

”اے اللہ! جو وعدہ کیا ہے پورا کر، اے اللہ! مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ! اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں پھر تیری عبادت نہ ہو گی۔“ البتہ اگر کہیں جہاد جاری ہو تو اس میں مال کے ساتھ بدرجہ اولیٰ اور دعا کے ساتھ بدرجہ اتم شامل رہنا چاہئے۔ نوازل کے وقت قوت نازلہ کی پابندی اسی ذیل میں آتی ہے۔

ایک مشہور محدث بیکنی بن معاذ الرازی نے ایک دن جہاد، أمر بالمعروف والنهی عن المنکر کے بارے میں وعظ کیا تو ایک عورت نے ان سے کہا: ”یہ ایسا فرض ہے جو ہم عورتوں سے ساقط کر دیا گیا ہے۔“ انہوں نے کہا: ”مان لیا کہ تم سے ہاتھ اور زبان کا ہتھیار ساقط کر دیا گیا، لیکن دل کا ہتھیار تو ساقط نہیں کیا گیا۔“ تو اس عورت نے کہا:
”تم نے صحیح کہا: اللہ تمہیں جزاً نیز دے۔“^(۱)

اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی اس سنتِ ثابتہ کا تذکرہ مناسب ہو گا جس سے مسلمان کی عارضی ہریت کی حکمت عیاں ہوتی ہے۔

پہلے اس بات کا ذکر آپ کا ہے کہ مصائب کا نزول چاہے وہ اسلامی حادث ہوں یا جنگ وجدال کی صورت میں جانی و مالی نقصان، مسلمانوں کے اپنے گناہوں کی پاداش میں نازل ہوتے ہیں، لیکن اس نقصان و ہریت کے وقت اہل ایمان اور اہل کفر و نفاق کے درمیان تمیز بھی ہو جاتی ہے۔ شکست کے اسباب میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے اوامر کی نافرمانی، اپنوں کی بے وقاری اور غداری، جتنی چالوں میں بے بصیرتی اور تھڑوی، آلات حرب کی کمی وغیرہ کئی عوامل کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صابرین اور منافقین میں بھی امتیاز قائم ہو جاتا ہے، تاکہ آئندہ کا تدارک کیا جاسکے اور صفوں کو مضبوط بنایا جاسکے۔

غزوہ اُحد کے موقع پر عارضی ہریت کے ضمن میں اس سنت کا بیان ہوا:

{إِنَّ يَمْسَسْكُمْ فَرَخٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَرَخٌ مِثْلُهُ وَتُلَكَ الْأَيَامُ نَذَارَةٌ لَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شَهِدًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}

”اگر تم رخی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی رخی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست اُحد (۱۳۰) اس لئے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔“ (آل عمران: ۱۳۰)

{وَلِيَمْحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ} (آل عمران: ۱۳۱)

”(یہ وجہ بھی تھی) کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔“

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} (آل عمران: ۱۳۲)

”کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر

نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں، اور صبر کرنے والے کون ہیں۔“
غزوہ اُحد کی اس عارضی ہزیریت سے لے کر اگر ایک لمبی جست لگائی جائے اور پچھلی دو
صدیوں کے ان معروکوں کا جائزہ لیا جائے جس میں ایک اچھی بھلی مسلمان قیادت کے ہوتے
ہوئے بھی ہزیریت کے چرکے اٹھانا پڑے، جیسے پیپو سلطان اور معرکہ سر زگا پشم (۷۹۹ءی)،
سراج الدولہ اور جنگ پلاسی (۷۵۷ءی)، شہیدین کا معرکہ بالا کوٹ (۸۳۶ءی)، متعدد
پاکستان کے دور میں سقوط ڈھا کہ (۱۹۱۷ءی)، سقوط بیت المقدس (۱۹۲۷ءی) تو ان میں مذکورہ
بالا عوامل میں سے کسی ایک کا یا ایک سے زائد کا دخل دکھائی دے گا۔

عقل مندی کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ منفی عوامل کا سد باب کرے اور ان
ثبت عوامل کو اپنانے جو اس کے لئے عزت و افتخار کا باعث ہو سکتے ہیں۔
اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں دعا گوہوں کہ اگر اس تحریر کارامہ کمیں بھی لغزش کا شکل
ہوئے تو اسے اپنے عفو و در گزر سے ڈھانپ لے اور اگر حق و سچائی کی بات کی ہے تو اسے قبولیت
سے نوازے۔ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى الْمَوْصِبِمَا أَجْمَعَيْنَ

- (۱) برداشت عائشہ ؓ: احمد، مسلم، ابو داود
- (۲) برداشت ثوبان ؓ: ابو داود
- (۳) برداشت ثوبان ؓ: مسلم، ترمذی، ابو داود
- (۴) اضافات برداشت ثوبان ؓ: احمد، ابن ماجہ، حاکم
- (۵) ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ۳:۲۵
- (۶) برداشت معاذ بن جبل: عقیلی، ابن عدی، طبرانی، ابو نعیم، تیہقی (۷) ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ۵:۲۱
- (۸) برداشت عمر بن الخطاب ناک، احمد، بخاری، مسلم ابو داود، ترمذی (۹) برداشت علیؑ: مسلم، نسائی
- (۱۰) برداشت عائشہ ؓ: احمد، بخاری، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ
- (۱۱) عبد الرحمن ناصر سعدی: تفسیر بعنوان تیہرا لکریم الرحمن۔ ص ۱۳۳
- (۱۲) برداشت ابو ہریرۃ: بخاری، ابو داود، نسائی (۱۳) ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ۳:۲۸
- (۱۴) ابن کثیر: التفسیر ۲:۲۷
- (۱۵) برداشت عمران بن حسین ؓ: احمد، ابو داود، حاکم (۱۶) برداشت ابو ہریرۃ: ترمذی
- (۱۷) انگریزی جریدہ Impact عد ۱۲، جلد ۳۳، نومبر دسمبر ۲۰۰۳ءی (۱۸) ابو داود، نسائی
- (۱۹) برداشت ابو موسیٰ الشعرا ؓ: بخاری، مسلم (۲۰) برداشت انسؑ: ابو داود
- (۲۱) برداشت ابو ہریرۃ: ابو داود۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن پچھلی حدیث (برداشت انسؑ) اس کی شاہد ہے۔
- (۲۲) مسلم، ترمذی (۲۳) مجلہ البیان (لندن)۔ سال ۲۰۰۳ء کے اعداد